

106485 - تیرہ برس کی ہونے کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھتی

سوال

ایک لڑکی بارہ یا تیرہ برس کی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتی، تو کیا اس پر یا اس کے گھر والوں پر کوئی گناہ ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

عورت کے مکلف ہونے کی شروط یہ ہیں کہ: مسلمان ہو اور عاقل و بالغ ہو تو پھر وہ شرعی احکام کی مکلف ہوگی۔ بلوغت کے لیے یا تو اسے حیض آنا شروع ہو جائے، یا پھر شہوت کے ساتھ منی خارج ہو، یا پھر احتلام ہونا شروع ہو جائے، یا پھر شرمگاہ کے ارد گرد سخت بال آجائیں، یا پندرہ برس کی ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائیگی۔ لہذا اگر اس لڑکی میں مکلف ہونے کی شروط پائی جاتی ہیں تو پھر اس پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں، اور مکلف ہونے کے بعد اس نے جتنے روزے ترک کیے ہیں وہ ان کی قضاء میں روزے رکھی گی۔ اور اگر بالغ ہونے کی شروط نہ پائی جائیں تو پھر وہ مکلف نہیں ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے " انتہی

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

الشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ عبد الله بن قعود.